

پنیا یسار خود نوشته فتاویٰ کا مجموعہ

فتاویٰ عثمانی

جلد چہارم

مفتی محمد تقی عثمانی

کویتینہ و تفسیر
مولانا محمد زبیر حق نواز

مکتبہ معارف القرآن کلچی

(Quranic Studies Publishers)

Karachi - Pakistan

فتاویٰ عثمانی

جلد چہارم

کتاب الإسترقاق ، کتاب الذبائح ، کتاب الاضحیۃ
کتاب اَحیاء الموات ، کتاب الأشربة ، کتاب الطب والتداوی
کتاب الحظر والإباحة ، کتاب السفرة

مفتی محمد تقی عثمانی

ترتیب و تخریج

مولانا محمد زبیر شریف نواز

مکتبہ معارف القرآن کراچی

(Quranic Studies Publishers)

Karachi - Pakistan

عرض مرتب

اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے فتاویٰ عثمانی کی جلد چہارم مکمل ہو کر قابل اشاعت ہوئی، اور اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ جلد درج ذیل ابواب پر مشتمل ہے۔

کتاب الاسترقاق، کتاب الذبائح، کتاب الاضحیہ، کتاب احیاء الموات، کتاب الاشربہ، کتاب الطب و التداوی، کتاب الحظر و الاباحۃ، کتاب المتفرقات

اس جلد میں بھی کام کی ترتیب وہی ہے جو پچھلی جلدوں میں تھی جسکی تفصیل سابقہ جلدوں میں حضرت والا دامت برکاتہم کے پیش لفظ اور عرض مرتب میں درج ہے، تفصیل جانے کیلئے جلد اول کا مقدمہ ملاحظہ کر لیا جائے۔

فتاویٰ عثمانی جلد سوم کی جب اشاعت ہوئی تو باقی ماندہ فتاویٰ کو سرسری دیکھ کر خیال یہ تھا کہ چوتھی جلد تک حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کے اب تک کے خود نوشتہ فتاویٰ مکمل ہو جائیں گے مگر جب ان فتاویٰ کو جمع و ترتیب دینا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ضخامت کے بڑھ جانے کے اندیشہ سے دو ابواب ”کتاب الوصیۃ“، اور ”کتاب الفرائض“، کو جلد چہارم میں شامل نہیں کیا جا رہا، نیز اس جلد کی کتاب المتفرقات میں بھی متفرق موضوعات سے تعلق رکھنے والے مختلف نوعیت کے مسائل بھی شامل نہیں کئے جا رہے ورنہ اس جلد کا حجم گذشتہ جلدوں سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا، اور جلدوں میں یکسانیت نہیں رہے گی، اس لئے چار جلدوں میں کام سمیٹنا ناممکن اور پانچویں جلد ناگزیر ہے۔

اس جلد سے متعلق ایک اہم وضاحت ضروری ہے اور وہ یہ کہ اس جلد میں کتاب الحظر و الاباحۃ اور کتاب المتفرقات درج ہیں، اور یہ دونوں عنوانات انتہائی وسیع ہیں، عنوانات کی وسعت کی بناء پر کوشش رہی کہ اس میں زیادہ سے زیادہ مختلف و متفرق موضوعات کے فتاویٰ شامل

کر لئے جائیں، چنانچہ ایسے تمام فتاویٰ ان عنوانات کے تحت جمع کرنے کے ساتھ ساتھ بعض وہ فتاویٰ بھی شامل کر لئے گئے کہ فقہی ترتیب کے لحاظ سے اصولی طور پر انہیں گذشتہ جلدوں میں مقررہ عنوانات کے تحت آنا چاہئے تھا مگر کسی وجہ سے (مثلاً پچھلی جلدوں کی شاعت کے وقت تک وہ لکھے نہیں گئے تھے یا دستیاب نہیں ہو سکے تھے..... وغیرہ) وہ ان جلدوں میں شامل اشاعت نہیں ہو سکے تھے، مجبوراً ایسے فتاویٰ بھی مذکورہ دونوں ابواب کے تحت شامل کر لئے گئے ہیں۔

ایک بات جو سابقہ جلدوں میں کہی گئی مکرر اس کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ ”فتاویٰ عثمانی“ کے نام سے فتاویٰ کا جو مجموعہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ حضرت والا دامت برکاتہم کے کل فتاویٰ ہرگز نہیں، یہ صرف وہ فتاویٰ ہیں جو دارالافتاء دارالعلوم کراچی کے نقل فتاویٰ کے رجسٹروں میں محفوظ ہیں، اور ان سے نقل کر کے یہ مجموعہ مرتب کیا گیا، اس کے علاوہ بھی حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کے ہزاروں خودنوشتہ فتاویٰ ہیں، مثلاً انگریزی میں تحریر کئے گئے فتاویٰ، بذریعہ ای میل بھیجے جانے والے فتاویٰ اور یومیہ ڈاک، جس میں ملک و بیرون ملک سے روزانہ بیسیوں خطوط آتے ہیں، ان میں درج سوالات کے جوابات حضرت والا روز کے روز تحریر فرماتے ہیں، ایسے تمام فتاویٰ کی تعداد بلاشبہ ہزاروں میں ہے، مگر چونکہ انکاریکارڈ دارالافتاء میں محفوظ نہیں ہے، اسلئے ایسے فتاویٰ بھی اس مجموعہ میں شامل نہیں ہو سکے۔

نیز خودنوشتہ فتاویٰ کے علاوہ حضرت والا دامت برکاتہم کے مصدقہ فتاویٰ کا بہت بڑا ذخیرہ دارالافتاء کے رجسٹروں میں محفوظ ہے جن کی تعداد ہزاروں سے متجاوز ہے، ان میں سے بہت سے فتاویٰ نہ صرف حضرت والا کی تصدیق سے مزین ہیں بلکہ ان میں بے شمار فتاویٰ ایسے ہیں جو حضرت والا دامت برکاتہم کی خصوصی ہدایات اور رہنمائی میں تحریر کئے گئے ہیں نیز ان فتاویٰ میں بہت بڑی تعداد ایسے فتاویٰ کی ہے جو حضرت والا دامت برکاتہم کے املاء اور خودنوشتہ اضافہ جات پر مشتمل ہیں، ایک اندازے کے مطابق ایسے فتاویٰ کی جلدوں کی تعداد درجنوں میں ہوگی اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت والا دامت برکاتہم کے مصدقہ فتاویٰ کے اس علمی اور تحقیقی ذخیرہ کی تحقیق و اشاعت ایک فرد کے بس کی بات نہیں، اس کیلئے ایک مستقل ادارہ اور محققین کی پوری جماعت کی ضرورت ہے۔ ایسے

تمام فتاویٰ اس مجموعہ ”فتاویٰ عثمانی“ میں شامل نہیں ہیں۔

نیز الحمد للہ حضرت والا دامت برکاتہم کے فتاویٰ تحریر فرمانے اور فتاویٰ کی تصدیق کا یہ سلسلہ تاحال جاری و ساری ہے اور دلی دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا دامت برکاتہم کا سایہ تادیر قائم و دائم رکھیں تاکہ امت کی رہنمائی کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے۔ چنانچہ فتاویٰ عثمانی کی پچھلی تین جلدوں کی اشاعت کے بعد بھی حضرت والا دامت برکاتہم نے سینکڑوں ایسے نئے فتاویٰ تحریر فرمائے جن کا تعلق کتاب الطہارۃ سے لے کر جلد سوم کے آخری باب (کتاب القسمة تک) سے ہے ایسے فتاویٰ کے بارے میں اب تک یہ کوشش رہی کہ انہیں پچھلی جلدوں کے نئے ایڈیشنوں میں متعلقہ ابواب کے تحت سمودیا جائے مگر دو باتیں اس میں باعث رکاوٹ ہیں۔

(۱)..... ایک تو اب الحمد للہ ایسے فتاویٰ کی تعداد سینکڑوں میں ہے، اور روز بروز

بڑھ رہی ہے۔

(۲)..... دوسرے ایسے فتاویٰ کو پچھلی جلدوں کے جدید ایڈیشنوں میں شامل کرنے سے وہ

تمام قارئین ان سے محروم ہو رہے ہیں جنہوں نے قدیم ایڈیشن خرید رکھے ہیں، ان قارئین پر مذکورہ نئے فتاویٰ سے استفادہ کیلئے ہمیشہ نئے ایڈیشنوں کی خریداری کا بوجھ ڈالنا مناسب معلوم نہیں ہوتا، اس لئے یہ طے کیا گیا ہے کہ ایسے تمام جدید فتاویٰ پانچویں جلد کے آخر میں ”مسائل منشورہ“، اور ”تکمملہ“ کے طور پر ترتیب وار شائع کئے جائیں گے۔

اس جلد میں حجم کی طوالت سے بچنے کیلئے حسب سابق مکررات کو حذف کیا گیا ہے مگر جو کوئی فتویٰ کسی زائد فائدہ پر مشتمل تھا اسے شامل اشاعت کیا گیا ہے جیسا کہ اس جلد کی کتاب الذبائح فصل فی الصيد میں ”کوئے کی حلت پر مفصل تحقیق“ کے عنوان سے شامل کیا گیا حضرت والا دامت برکاتہم کا مفصل فتویٰ اگرچہ پہلے ”فقہی مقالات“ میں چھپ چکا ہے مگر اس فصل میں اسی موضوع پر حضرت والا دامت برکاتہم کے کئی دیگر فتاویٰ میں جا بجا اسی مفصل تحقیق فتویٰ کا حوالہ دیا گیا ہے، نیز اس مفصل فتویٰ میں حضرت والا دامت برکاتہم نے حال ہی میں ایک تفصیلی اضافہ بھی تحریر فرمایا ہے، جو اس فتویٰ کے حاشیہ میں درج ہے، ان وجوہات کی بناء پر یہ مفصل فتویٰ

اجمالی فہرست

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۱	عمرض مرتب	۵
۲	کتاب الإسترقاق	۲۷
۳	کتاب الذبائح	۳۳
۴	کتاب الأضحیۃ	۸۷
۵	کتاب احياء الموات	۱۳۹
۶	کتاب الأشربة	۲۱۵
۷	کتاب الطب والتداوی	۲۲۱
۸	کتاب الخطر والإباحۃ	۳۳۱
۹	کتاب المتفرقات	۵۱۱

تفصیلی فہرست

عنوان

صفحہ نمبر

﴿کتاب الإسترقاق﴾

۲۷

(غلام اور باندی بنانے کے مسائل)

۲۹

آج کل کسی کو غلام اور باندی کے طور پر خریدنے اور رکھنے کا حکم
موجودہ زمانہ میں غلام اور باندی کا تصور اور باندی کی شرعی تعریف اور اس کے صحبت
واولاد کا حکم

۲۹

۳۰

بین الاقوامی معاہدہ کی وجہ سے کسی کو غلام بنانا جائز نہیں

﴿کتاب الذبائح﴾

۳۳

(ذبیحہ کے مسائل کی بیان)

﴿فصل فی شرائط الذبح وأحكامه وأدابه﴾

۳۵

(ذبح کی شرائط احکام اور آداب کی بیان)

۳۵

مرغ کی چار رگوں میں سے ایک رگ کٹنے سے رہ گئی تو اس ذبیحہ کا حکم

۳۶

مشینی ذبیحہ کا حکم

۳۸

کافر حکومت کی طرف سے مقرر کئے ہوئے مسلمان قضا کی ذبیحہ کا حکم

۳۹

کسی اسلامی حکومت کا حلال جانور کے ذبح پر پابندی لگانے کا حکم

اہل کتاب کے مشینی ذبیحہ کا حکم اور اس سلسلے میں امریکی یونیورسٹیوں کے عرب طلبہ کے

۴۰ خیالات کا شرعی جائزہ.....

۴۶ بسم اللہ پڑھتے ہوئے مرغی کو چٹھری پر پھیر کر ذبح کرنے کا حکم.....

۵۳ پیر کو کھلانے کی نیت سے یا غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کا حکم.....

﴿فصل فی الصيد وما يجوز أكله وما لا يجوز من الحيوان﴾

۵۴ (شکار اور حلال وحرام جانوروں کا بیان)

۵۴ کوئے کی حلت پر مفصل تحقیق.....

۵۹ کوئے کی مختلف اقسام اور ہمارے ملک میں پائے جانے والے کوئے کا حکم.....

۸۰ کوئے کی حلت پر تحقیق.....

۸۱ پاکستان میں پائے جانے والے کوئے کی حلت و حرمت کا حکم.....

۸۲ سیبی حرام ہے.....

۸۴ منگرا مچھلی کا حکم.....

﴿کتاب الاضحية﴾

۸۷ (قربانی کے مسائل کا بیان)

﴿فصل فی مَنْ مَتَّحِبُّ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يَتَّحِبُّ﴾

۸۹ (قربانی کس پر واجب ہے کس پر نہیں)



عنوان

صفحہ نمبر

۱: پورے گھرانے کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے یا ہر ایک کی الگ الگ قربانی

۸۹ ضروری ہے؟

۸۹ ۲: کیا والدین کی طرف سے قربانی کی جاسکتی ہے؟

۹۰ اپنی کل رقم کسی کو قرض دے دینے والے پر قربانی کے حکم میں تفصیل

نابالغ مال دار پر زکوٰۃ، قربانی واجب ہے یا نہیں؟ بہشتی زیور اور ہدایہ کی بظاہر متضاد

۹۲ عبارات کی تحقیق

۹۳ غیر صاحبِ نصاب تین بھائیوں کا انفرادی یا اجتماعی طور پر قربانی کرنے کا حکم

۹۴ عالمِ دین کے لئے حج و قربانی کے قابل جمع کی گئی تنخواہ پر یہ فرائض ادا کرنا لازم ہیں

۹۵ مقروض پر قربانی کے حکم کی تفصیل

﴿فصل فی وقت الاضحیۃ﴾

۹۷ (قربانی کے وقت کا بیان)

جس شخص کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، اُس کے ملک میں ایامِ قربانی ختم نہ ہونے

۹۷ کا لحاظ رکھنا لازم ہے (فتاویٰ رحیمیہ اور دارالعلوم لندن کے فتاویٰ کا جائزہ)

﴿فصل فی مایکون عیباً فی الاضحیۃ وما لایکون﴾

۱۰۵ (قربانی میں عیب کا بیان)

۱۰۵ لنگڑے جانور کی قربانی کا حکم

﴿فصل فی مایاتعلق بالشركة فی الضحایا والتضحیۃ عن الغیر﴾

۱۰۶ (قربانی میں متعدد حصوں اور دوسرے کی طرف سے قربانی کا بیان)

صفحہ نمبر

عنوان

- ۱۰۶ والدہ مرحومہ کی نیت سے ذبح کیا گیا جانور کس کی طرف سے ادا ہوا؟
- ۱۰۷ ۱: بڑے جانور میں قربانی کے حصوں کی مختلف صورتیں اور ان کا شرعی حکم
- ۱۰۷ ۲: چھ افراد کا اپنی واجب قربانی کے علاوہ ساتواں حصہ مشترک طور پر کسی کے ایصالِ ثواب کے لئے کرنے کا تفصیلی حکم اور مختلف فتاویٰ کا جائزہ
- ۱۱۸ غیر کی طرف سے قربانی میں تعدد کی تحقیق

﴿فصل فی نذر الاضحیۃ﴾

- ۱۲۳ (قربانی کی نذر ماننے کا بیان)
- ۱۲۳ ”بکری کا ایک بچہ آئندہ عید الاضحیٰ میں قربانی دوں گا“ الفاظ کہنے کا حکم

﴿فصل فی جلود الاضحیۃ﴾

- ۱۲۵ (قربانی کی کھالوں کا بیان)
- ۱۲۵ قربانی کی کھال کی رقم مدرسہ کی تعمیر اور مدرسین کی تنخواہوں میں خرچ کرنے کی ایک صورت کا حکم
- ۱۲۵ صاحبِ نصاب امام کو قربانی کی کھال دینے کا حکم (فتاویٰ عثمانی کے ایک مسئلہ کی وضاحت)

﴿فصل فی متفرقات الاضحیۃ﴾

- ۱۲۸ (قربانی کے مختلف مسائل کا بیان)
- ۱۲۸ قربانی کے لئے خریدا گیا جانور اگر بیمار ہو جائے تو کیا حکم ہے؟
- ۱۲۹ قربانی کے لئے تیسرا جانور خریدنے کے بعد پہلے ذبح نہ کئے گئے دو جانوروں کا حکم
- ۱۳۰ بہو کا سر کی طرف سے بھیجے جانے والے بکرے سے قربانی کا حکم



عنوان

صفحہ نمبر

- ۱۳۱ ذبح کرنے کی اجرت لینے کا حکم اور یہ اجرت کس کے ذمے ہے؟
- ۱۳۱ قربانی کے گوشت کی تقسیم کا طریقہ

﴿فصل فی العقیقۃ﴾

- ۱۳۲ (عقیقہ کے مسائل)
- ۱۳۲ عقیقہ کی شرعی حیثیت اور لڑکے کے لئے دو بکروں کی استطاعت نہ ہو تو کیا حکم ہے؟
- ۱۳۲ عقیقہ کے گوشت کی تقسیم کا طریقہ
- ۱۳۳ گائے کے ذریعہ عقیقہ کا حکم
- ۱۳۳ لڑکے کے عقیقہ کے لئے دو اور لڑکی کے لئے ایک حصہ کرنے کا حکم
- ۱۳۵ عقیقہ کی گائے میں لڑکے اور لڑکی کے حصوں کی تفصیل
- ۱۳۶ گائے میں عقیقہ کرنے کا حکم
- ۱۳۶ ایک گائے میں پانچ بچوں کے عقیقہ کا حکم
- ۱۳۶ عقیقہ میں گائے اور بھینس کرنے کا حکم

﴿کتاب اَحْیَاءِ الْمَوَاتِ وَمَا یَتَعَلَّقُ بِالزَّکَاةِ وَالْاَرْضِیِّ الشَّامِلَاتِ وَغَیْرِهَا﴾

۱۳۹

(بخیر اور غیر آباد زمینوں کی آباد کاری، خزانوں، دینیوں اور اراضی شاملات سے متعلق مسائل)

- ۱۴۱ صوبہ خیبر پختونخواہ کے پہاڑی جنگلات کی شرعی حیثیت
- ۱۴۳ خود ر و جنگلات کا شرعی حکم اور متعلقہ تحقیق کا فقہی جائزہ (سوال و خط از مستفتی)

ارض کو ہاٹ کی ملکیت سے متعلق فتاویٰ پر حضرت والا دامت برکاتہم کی رائے اور ”انعام

الباری“ میں انگریزوں کی طرف سے عطاء جاگیر سے متعلق ایک مسئلہ کی وضاحت ۱۸۵

تختییل ٹیری ضلع کو ہاٹ کے جاگیر دارانہ نظام کی شرعی حیثیت ۱۸۷

(۱) ذاتی، سرکاری یا مباح عام زمین میں ملنے والے دھینہ کا حکم اور نشانہ ہی کرنے والے

کے حصہ کی تفصیل ۲۰۷

(۲) کیا حکومت سے پوشیدہ سرکاری خیانت شدہ رقم کی دریافت بھی ”دھینہ زمین“

کا حکم رکھتی ہے؟ ۲۰۷

دو زمینوں کے باہمی تبادلہ کے پینتیس سال بعد کسی زمین میں کمی بیشی ظاہر ہونے کی ایک

خصوص صورت کا حکم ۲۰۹

تحدید ملکیت کا شرعی تصور اور تحدید کی شرعی حیثیت سے متعلق حضرت مولانا مفتی محمد شفیع

صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ۲۱۳

۲۱۴ ﴿کتابُ الاُشربة﴾

﴿فصل فی احکام الکحول﴾

۲۱۵ (الکویل کے احکام)

۲۱۸ الکویل ملی ہوئی دوا کے استعمال کا حکم

۲۱۸ الکویل ملی ہوئی خوشبو کے حکم میں تفصیل



صفحہ نمبر

عنوان

۲۱۸ الکلوئیل ملی ہوئی خوشبو کا حکم

﴿ کتاب الطب والتداویح وتلقيح الدم والاعضاء والاحبال بالآلات وضبط الولادة وغيرها ﴾

۲۲۱ (علاج معالجة اعضاء کی یونید کاری ٹیسٹ یونجینی)
(اوضبط ولادت وغیرہ سے متعلق مسائل کا بیان)

۲۲۳ تنفس برقرار رکھنے کیلئے مصنوعی مشینوں کے استعمال کا حکم

۲۲۳ مختلف اعضاء کے ٹرانسپلانٹ کا حکم

۲۲۶ مریض یا اس کے رشتہ داروں کو اصل مرض کے بارے میں مطلع کرنے کا حکم

۲۲۶ بچے کی پیدائش کے وقت زچہ کے پردہ کا حکم

۲۲۶ کسب معاش کیلئے عورت کا گھر سے باہر نکلنا

۲۲۶ لیڈی ڈاکٹر کی دینی ذمہ داریاں

۲۲۶ ڈاکٹر کے لئے اسلام کی تعلیمات

سرک پر ایکسیڈنٹ کی صورت میں ڈاکٹر یا عام مسلمانوں کو مدد کرنی چاہئے یا گزر جانا

۲۲۶ چاہئے

۲۲۶ خواتین کے لئے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے کا شرعی حکم



صفحہ نمبر

عنوان

- ۲۲۷ میڈیکل تعلیم میں مخلوط نظام کا حکم
- ۲۲۷ آپریشن کے دوران پردہ کے شرعی احکام میں کوتاہیوں کا حکم
- ۲۳۸ مصنوعی تولید اور ٹیسٹ ٹیوب بے بی کا شرعی حکم
- ٹیسٹ ٹیوب بے بی سے متعلق چند جزئیات اور ٹیسٹ ٹیوب بے بی میں نطفہ والے
- ۲۸۴ مرد اور عورت سے ثبوت نسب کا حکم
- ۳۰۱ محض حمل پر ثبوت نسب کا حکم
- خاندانی منصوبہ بندی کی تحریک کی شرعی حیثیت اور اس سلسلے میں قاری محمد طیب صاحب
- ۳۲۶ رحمہ اللہ کا موقف
- ۳۲۷ ایسی نس بندی کا حکم جس سے تولید کی صلاحیت ختم ہو جائے
- ۳۲۷ آنکھیں عطیہ کرنے کی وصیت کا حکم
- ۳۲۸ آنکھوں کے عطیہ کی شرعی حیثیت

﴿کتاب المحظر والإباحة﴾

۳۳۳ (جائز و ناجائز حلال و حرام سے متعلق مسائل کی بیان)

﴿فصل فی الأکل والشرب﴾

۳۳۳ (کھانے پینے کے مسائل کی بیان)



عنوان

صفحہ نمبر

- ۳۳۳ ایسنس اور الکحل ملی ہوئی اشیاء کھانے کا حکم
- ۳۳۳ انزائم ملے ہوئے پنیر کے استعمال کا حکم
- ۳۳۴ جیلٹین کو انفخہ پر قیاس کرنے کا حکم (پنیر اور جیلٹین سے متعلق اہم تحقیق)
- ۳۳۸ سونے چاندی کے برتن میں کھانے کا حکم
- ۳۳۹ تیجے کی رسم میں پکائے جانے والے کھانے کا حکم
- ۳۳۹ شبِ براءت کا حلوہ اور گیارہویں کے کھانے کا حکم

﴿فصل فی اللباس والذینۃ﴾

- ۳۴۰ (لباس اور زینت کے مسائل)
- ۳۴۰ ممنوع ریشم کی تعریف اور مردوں کے لئے اصل اور مصنوعی ریشم کے استعمال کا حکم
- ۳۴۲ بغیر پگڑی کے صرف ٹوپی پہننے کا حکم
- ۳۵۰ ٹوپی کی شرعی حیثیت

﴿فصل فی التصاویر والتلفزیون﴾

- ۳۵۴ (تصویریلی وٹرن اور کمپیوٹرسی ڈی کے احکام)
- ۳۵۴ تصویر کھینچنے اور کھینچوانے کا حکم
- ۳۵۴ ٹی وی دیکھنے کا حکم
- ۳۵۴ ٹی وی گھر پر رکھنے کا حکم
- ۳۵۵ ٹی وی اور ریڈیو سے متعلق قدیم فتویٰ

صفحہ نمبر	عنوان
۳۵۵	ٹی وی فلم اور براہ راست پروگرام کا حکم.....
۳۵۵	تبلیغی امور پر مبنی ویڈیو کیسٹ کا حکم.....
۳۵۵	ٹی وی، ریڈیو کی مرمت کا حکم.....
۳۵۵	مذکورہ امور پر فقہ اکیڈمی کی رائے.....
۳۵۵	ٹی وی پر علماء کے آنے کا حکم.....
۳۵۶	ٹی وی کے ادارے میں ملازمت کا حکم.....
۳۵۸	مودی بنانے کا حکم.....
	علماء کے ٹی وی پر آنے اور ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں حضرت والادامت برکاتہم کا حتمی فتویٰ.....
۳۵۹	شریعت کی خلاف ورزی کر کے دین کی خدمت کرنے اور ٹی وی پر علماء کے آنے کی شرعی حیثیت.....

﴿فصل فی الحجاب﴾

(پردہ کے حکام)

۳۹۹	عورت کے لئے چہرہ کے پردہ کی شرعی حیثیت.....
۳۹۹	پہلے شوہر کے رشتہ داروں کا بیوہ سے پردہ کرنے کا حکم.....
۴۰۱	عورتوں کو دیکھنے اور بے پردہ عورتوں کے ساتھ کام کرنے میں نظر کی حفاظت کا حکم.....

﴿فصل فی الجماع وما یتعلق بالزواجین﴾

(جماع اور زوجین کے تعلقات کی بات)

۴۰۴	شوہر اور بیوی کے حقوق زوجیت ادا کرنے کے کچھ احکام.....
۴۰۴	بیوی کے منہ میں عضو تناسل داخل کرنا مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہی؟.....



عنوان

صفحہ نمبر

- ۴۰۶ حقوق زوجیت کی ادائیگی کے دوران ملاعبت کا حکم
- ۴۰۶ دورانِ صحبت گفتگو کرنے کا حکم
- ۴۰۶ ایامِ حیض کے بعد غسل سے پہلے صحبت کرنے اور دوبارہ خون آنے کا حکم
- ۴۰۶ ایامِ حمل میں صحبت کا حکم
- ۴۰۶ وضع حمل کے کتنے دن بعد صحبت جائز ہے؟
- ۴۰۶ قریب البلوغ بیوی سے صحبت کا حکم
- ۴۰۶ رخصتی سے قبل صحبت کا حکم
- ۴۰۶ کسی کے سامنے صحبت کرنے کا حکم

﴿فصل فی الہدایۃ والضيافات﴾

- ۴۱۱ (ہدیہ اور دعوت کے احکام)
- ۴۱۱ بدعتی کی دعوت قبول کرنے کا حکم
- ۴۱۲ سودی کاروبار کرنے والے کی دعوت کا حکم

﴿فصل فی تسمیۃ الاولاد والمواضع وغیرہا﴾

- ۴۱۲ (اولاد اور جگہوں وغیرہ کے مختلف ناموں کا بیان)
- ۴۱۲ بچی کا نام ”شہلا“ رکھنے کا حکم
- ۴۱۳ مکان کا نام ”بیت الرسول“ رکھنے کا حکم
- ۴۱۴ چوک کا نام ”ختم نبوت چوک“ رکھنے کا حکم
- ۴۱۴ مولانا۔۔۔۔۔ مرحوم کو دین کا ”قبلہ و کعبہ“ کہنے کا حکم

﴿فصل فی الکذب والنہیانۃ والتوریۃ﴾

- ۴۱۵ (جھوٹ، خیانت اور توریہ سے متعلق مسائل کا بیان)

صفحہ نمبر	عنوان
-----------	-------

- ۴۱۵ توریہ کی مخصوص صورت کا حکم اور مظلوم کا دفعِ ظلم کے لئے توریہ کرنے کا حکم
- ۴۱۶ غبن کردہ مال کی اطلاع مالک کمپنی کو کرنا ضروری ہے
- ۴۱۷ انگریز کے دور میں اکابر دیوبند کی تحریروں میں توریہ کا استعمال
- ۴۱۸ خیانت کے مرتکب افراد کی بدعنوانی کی شکایت افسران بالا کو کرنے کا حکم
- سرکاری دورہ میں کسی عزیز یا دوست کے گھر رہنے کی صورت میں ہوٹل کارہائشی خرچ حکومت سے لینے کا حکم
- ۴۱۹

﴿فصل فی الدحیۃ و احکام الشعر و حلق الرأس و العانۃ و قص الشوارب و غیرہا﴾

- ۴۲۱ (داڑھی اور جسم کے مختلف بالوں کے کاٹنے اور مونڈنے وغیرہ کے احکام)
- ۴۲۱ داڑھی کی شرعی حیثیت
- ۴۲۳ کافر کی ڈاڑھی مونڈنا جائز نہیں

(زیر ناف بالوں کی صفائی کے احکام)

- ۴۲۵ زیر ناف بالوں اور ایٹام صفائی کی حدود کا تعین بغل کے بالوں کی صفائی کا حکم
- ۴۲۳ عورت کا چہرہ سے بال صاف کرنے کا حکم اور متعلقہ حدیث کی تحقیق

﴿فصل فی السلام﴾

- ۴۳۲ (سلام سے متعلق مسائل کا بیان)
- ۴۳۲ مشرک کے سلام کا جواب کس طرح دیا جائے؟
- ۴۳۳ غیر محرم کو سلام کرنے کا حکم
- ۴۳۳ دیور کا بھابھی کو سلام کرنے کا حکم
- ۴۳۳ کھانے کے دوران سلام کرنے کا حکم



عنوان

صفحہ نمبر

۴۳۶

﴿فصل فی احکام الجوال﴾

۴۳۶

دورانِ نماز موبائل کی گھنٹی بجنے کے مسئلہ کو ”حالتِ حقن“ پر قیاس کر کے فسادِ نماز کا حکم

۴۴۰

مساجد میں موبائل جیمز نصب کرنے کا مسئلہ

﴿فصل فی الرؤیا والکشف والادعیۃ وزیارة المقابر
ومسائل الصوف وغیرہا﴾

۴۴۳

(خواہوں کشف مختلف دعاؤں زیارت قبور اور دیگر مسائل تصوف کا بیان)

۴۴۳

کشف قبور کی شرعی حیثیت

۴۴۳

موت اور اعمال کے مراقبہ کا ثبوت

۴۴۵

یہ کہنا کہ ”تصوف کا دور ختم ہو گیا، اب اصلاح صرف تبلیغ سے ہوگی“ کیسا ہے؟

۴۴۶

استخارہ کا اصل شرعی تصور اور مسنون طریقہ

۴۴۸

مزارات اولیاء کی زیارت کا مفصل شرعی حکم

۴۵۲

مزارات کی زیارت کے معتدل شرعی موقف پر اعتراضات کی حیثیت

۴۵۴

اللہ اور اس کے حبیب ﷺ کی رحمتوں میں آنے کی دعا کا حکم

سفر کی مسنون دعا اور پی آئی اے میں بوقت پرواز پڑھی جانے والی دعا کی حیثیت اور اس

۴۵۵

میں اعرابی غلطی کی اصلاح

۴۵۷

تبلیغی جماعت کا غیر مسلموں کو دعوتِ اسلام نہ دینے کا حکم

یورپی ممالک میں دعوت و تبلیغ کی نیت سے جانے کے باوجود تبلیغی جماعت کا حصول ویزہ

۴۵۷

کی خاطر وزٹ اور سیاحت کا ارادہ ظاہر کرنا

حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے وعظ میں بیان کردہ حضرت شاہ ابوالمعالیؒ کی ایک حکایت

۴۵۹

پراشکال اور اس کا جواب



صفحہ نمبر

عنوان

کلیاتِ امدادیہ، قصائدِ قاسمی، نشر الطیب اور امداد المثنیٰ میں مذکور چند اشعار پر اشکال اور

۴۶۲ اس کا جواب

۴۶۵ ذکر جہری کا شرعی حکم اور ثبوت

۴۶۵ اجتماعی طور پر جہرِ اتلاوت قرآن کا حکم

۴۶۵ ختمِ خواجگان کی شرعی حیثیت اور حکم

۴۶۵ سالک کا یہ سوچنا کہ ”مرشد کے توسط سے دلی سرور حاصل ہوا“ کیسا ہے؟

۴۷۰ محبت کی بناء پر ”تصورِ شیخ“ کا حکم

۴۷۱ حسد، صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ؟ (حسد کی مختلف اقسام اور صورتوں کی تفصیل اور شرعی حکم)

۴۷۲ شیخ کس کو بنایا جائے؟ شیخ کی مجلس میں گناہوں کا ارتکاب

۴۷۲ ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہئے جس سے دوسرے کی تذلیل ہو

۴۷۳ جس کے عملیات مفید ہوں اسے شیخ بنایا جاسکتا ہے؟

۴۷۳ ”مشیت“ اور ”مرضی“ میں فرق

۴۷۴ اجتماعی ذکر کی مجالس کا شرعی حکم

نماز کے بعد ذکر و تسبیحات سے فارغ ہو کر دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے سے متعلق

۴۸۱ نور الایضاح کی ایک عبارت کا مطلب

۴۸۳ کعبہ شریف کو دیکھتے وقت دعا کا حکم

﴿فصل فی متفرقاتِ الحظر والاباحۃ﴾

۴۹۷ (جٹ زونہ جائز ہے متفرق مسائل)

۴۹۷ کھڑے ہو کر ایک ہی سانس میں پانی پینے کا حکم

۴۹۸ مردار کی چربی سے بنائے گئے صابن اور گلیسرین کا حکم



صفحہ نمبر	عنوان
۴۹۹	دینی ذہن سازی کی نیت سے اسکول پڑھانے کے دوران چند منکرات
۴۹۹	مسجد میں استعمال شدہ پتھر خریدنے کے بعد گھر میں لگانے کا حکم
۵۰۰	”عید مبارک“ کہنے کا حکم
۵۰۲	لے پالک کے شرعی احکام
۵۰۴	پرانی قبر پر وضو کا پانی بہانے کا حکم
۵۱۰	علاقہ میں خوردنی اجناس کی کمی کے باوجود تمباکو کی کاشت کرنے کا حکم
	﴿کتاب المتفرقات﴾
۵۱۱	(متفرق مسائل کا بیان)
	اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ ”شخص“ استعمال کرنے کا تفصیلی حکم اور حضرت شاہ رفیع الدین
۵۱۳	صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن
۵۱۶	دوسرے سیاروں میں مخلوق کا وجود اور اس میں علیحدہ سلسلہ نبوت چلائے جانے کا تصور
۵۱۶	آپ ﷺ کے فضائل کا حکم
	مردہ کو زندہ کرنے سے متعلق قرآن میں مذکور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطالبہ پر
۵۲۱	اشکال اور اس کا جواب
۵۲۴	منصوص احکام میں ترمیم و تغیر کا کسی کو اختیار نہیں
۵۲۵	لائبریری کی کتب وقف کئے بغیر اصل مالکوں کی ملکیت سے نکال دینے کا طریقہ
۵۲۸	مصیبت سے نجات کے لئے ”قوت نازلہ“ پڑھنے کا تصور اور حکم
۵۳۰	مسند امام اعظم رحمہ اللہ کے چند راویوں پر بحث
۵۳۴	صحیح بخاری کی روایات کے بارے میں چند نکات کی وضاحت
۵۴۵	بدعتی کی روایت کا حکم اور بعض اصطلاحات شرعیہ کی وضاحت